

# گھڑی سے بدشگونی لینا کیسا؟

فتویٰ نمبر: WAT-165

تاریخ اجراء: 09 ربیع الاول 1443ھ / 16 اکتوبر 2021ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ”گھر میں لگی ہوئی ٹائم والی گھڑی رکنی نہیں چاہئے، اسے ہر وقت چلتے ہی رہنا چاہئے، اگر رک جائے گی، تو تکلیف یا مصیبت آسکتی ہے“ تو کیا یہ صحیح ہے یا بدشگونی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

آپ کے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ ”گھر میں لگی ہوئی ٹائم والی گھڑی رکنی نہیں چاہئے، اسے ہر وقت چلتے ہی رہنا چاہئے، اگر رک جائے گی، تو تکلیف یا مصیبت آسکتی ہے“ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ بدشگونی اور لوگوں کے توہمات میں سے ہے اور ان چیزوں کی ممانعت حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لیس منامن نظیر“ ترجمہ: جس نے بدشگونی لی، وہ ہم میں سے نہیں (یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔) (المعجم الکبیر، ج 18، ص 162، بیروت)

مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ نفع و نقصان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا تعلق گھڑی کے رک جانے یا اس جیسے دیگر توہمات سے نہیں، جو مصیبت تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ آکر رہے گی، اگرچہ گھڑی مسلسل چلتی رہے، اور جو مصیبت نہیں آئی تو اگرچہ گھڑی کتنی ہی دیر کیوں نہ رکی رہے، وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ترجمہ: تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا، وہ ہمارا مولیٰ ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہئے۔“ (پ 10، سورۃ التوبہ، آیت 51)

نوٹ: اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بنام ”بدشگونی“ کا مطالعہ فرمائیں، جس کا لنک یہ ہے:

<https://www.dawateislami.net/bookslibrary/ur/bad-shuguni>

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



## Darul-IftaAhlesunnat (Dawat-e-Islami)



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)